



UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
General Certificate of Education Advanced Level

URDU

9686/02

Paper 2 Reading and Writing

May/June 2010

1 hour 45 minutes

Additional Materials: Answer Booklet/Paper



READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.

Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.

Write in dark blue or black pen.

Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.

Answer **all** questions.

Write your answers in **Urdu**.

Dictionaries are **not** permitted.

You should keep to any word limit given in the questions.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.

The number of marks is given in brackets [] at the end of each question or part question.

مندرجہ ذیل ہدایات غور سے پڑھیے۔

اگر آپ کو جواب لکھنے کی کاپی ملے تو اس پر دی گئی ہدایتوں پر عمل کریں۔

جواب لکھنے کی کاپی میں مہیا کی گئی جگہوں پر اپنا نام، سینٹر نمبر اور امیدوار کا نمبر لکھیں۔

صرف نیلے یا کالے رنگ کا قلم استعمال کریں۔

اسٹیل پل، پیپر کلپ، ہائی لائٹ، گوند، کریکشن فلوئڈ مت استعمال کریں۔

لغت (ڈکشنری) استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ہر سوال کا جواب دیں۔

اپنے جوابات اردو ہی میں لکھیں۔

آپ کا ہر جواب دی گئی حدود کے اندر ہونا چاہیے۔

اگر آپ ایک سے زیادہ جوابی کاپیاں استعمال کریں، تو انہیں مضمون سے ایک دوسرے سے تغیری کر دیں۔

اس پرچے میں ہر سوال کے مارکس بریکٹ میں دیے گئے ہیں: []

This document consists of 5 printed pages and 3 blank pages.



Section 1

مندرجہ ذیل عبارت پڑھیے پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔

اے لیوں کے اکثر طلباء کی طرح میں انٹرنیٹ پر غیر ملکی تعلیمی اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا کہ وفتاً میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے بیرونی ممالک جانے والے طلباء وہاں مستقل قیام کا فیصلہ کرتے وقت آخر اپنے وطن کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ ہمارا ملک اپنے اس قیمتی اثاثے سے کیوں محروم ہوتا جا رہا ہے؟ ان خیالات نے مجھے یہ احساس دلایا کہ ہمارا ملک ایک سُنگین مسئلے سے دوچار ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے وطن عزیز سے ذہین اور ہنرمند افراد کی ہجرت۔

5

اس کے اثرات فوری طور پر تو ظاہر نہیں ہوں گے مگر مستقبل میں یہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی ملک سے تعلیم یافتہ، پیشہ ور اور فنی مہارت کے حال افراد کا ایک بڑی تعداد میں اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو جانا ذہین اور ہنرمند افراد کی ہجرت ہے۔ اور یہ ہجرت عموماً بہتر آمدی، اعلیٰ معیار زندگی، اپنے خاندان کے لیے بہتر مستقبل کی ضمانت یا اپنے وطن میں ترقی کے موقع کی کمی اور سیاسی طور پر غیر یقینی صورتِ حال کی وجہ سے عمل میں آتی ہے۔ یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ عموماً ترقی پذیر ممالک کے افراد ہی اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ممالک کا رُخ کیا کرتے ہیں۔ ایسا کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے وطن کی مٹی کا ان پر کچھ قرض بھی ہوتا ہے جس کی ادائیگی ان کا اخلاقی فرض ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے مادر وطن کو اس ہجرت کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے کہ ایسا کرنے والے اپنی ذہانت اور صلاحیت بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کا فائدہ ایک ایسے ملک کو پہنچتا ہے جس ملک کا ان افراد کی تعلیم و تربیت میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔

10

گزشتہ چند سالوں میں پاکستان سے ذہین اور ہنرمند افراد کی ہجرت میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق پچھلے چند سالوں میں تین ہزار سے زیادہ افراد دوسرے ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں۔ چونکہ بہت سے لوگ مستقل ہجرت کے ارادے سے ملک نہیں چھوڑتے اس لیے ان کی صحیح تعداد کا تعین کرنا ناممکن ہو گا۔

15

یونیورسٹیوں اور کالجوں کے فارغ التحصیل طلباء کو اپنے پیشے سے متعلق اپنے وطن میں موقع بالکل نظر نہیں آتے اس لیے یہ قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مغرب کی پُر کشش طرزِ زندگی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ان کی ہجرت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہیں بہتر معیار زندگی کی پیش کش کی جاتی ہے بلکہ ان میں جذبہِ عُحبَّۃِ الْوُطْنِ کا فقدر ان ہوتا ہے اور انہیں اپنے وطن کی تہذیب و ثقافت اور رہن سہن کے انداز میں کوئی جاذبیت نظر نہیں آتی اور ان میں سے کچھ لوگ ملک کی سیاسی اور معاشری طور پر غیر یقینی صورتِ حال سے تنگ آ کر ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔

20

۱۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کے معنی واضح ہوں۔

دفعتاً - سگین - کردار - تعین - جاذبیت

[5]

۲۔ مندرجہ ذیل فقروں کے ہم معنی فقرے عبارت سے نکال کر لکھیے۔

سامنے نہیں آئیں گے - ناقابلِ اعتبار حالات -

دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں - ہار مان لیتے ہیں - وطن سے محبت -

[5]

۳۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب اردو میں جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔

[ہر سوال کے بعد دیے گئے مارکس لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان کے معیار کے لیے اور ۵ مارکس تک دیے جاسکتے ہیں۔]

(مُل ۱۵ + ۵ = ۲۰ مارکس)

ا: تعلیم کی غرض سے بیرون ملک جانے والے طلباء کے بارے میں مصنف کے کیا خیالات ہیں؟

ب: قیمتی اثاثے سے محروم ہو جانے سے مصنف کی کیا مراد ہے؟

ج: دوسرے پیراگراف میں ”قرض“ اور ”اخلاقی فرض“ کی اپنی رائے کے مطابق وضاحت کیجیے۔

د: سرکاری رپورٹ پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے اور کیوں؟

ر: مصنف نے کن لوگوں کو خاص طور پر اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کیوں؟

[Total: 15 + 5 = 20 marks]

Section 2

مندرجہ ذیل عبارت پڑھیے پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔

تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد کی بحیرت کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو طلباء دوسرے ممالک میں تعلیم کی غرض سے جاتے ہیں وہ دراصل بحیرت کی نیت سے اپنا وطن نہیں چھوڑتے۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس آ کر اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ مگر وہاں جا کر وہ اپنی تعلیم میں اس قدر محظوظ ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے وطن کو یاد کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اپنے گھروالوں سے ان کا رابطہ بھی بس واجبی سارہ جاتا ہے۔ نیجتاً وہاں کے ماحول میں وہ گم ہو کر وہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرونی ممالک میں رہائش اور روزمرہ کے اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ طلباء چھٹیوں کے 5 دوران اپنے گھروالوں سے ملاقات کے لیے ہوائی جہاز کا لکٹ بھی نہیں خرید پاتے۔ پاکستانی ایئر لائیں بھی ان طلباء کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں فراہم کرتی۔ مجبوراً اسی ملک میں رہ کر چھٹیوں کے دوران انہیں کوئی جزوی ملائمت ملازموں تلاش کرنی پڑ جاتی ہے۔

مانا کہ بیرونی ممالک میں مستقل سکونت اختیار کرنے والے اس بات میں حق بجانب ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں ذاتی طور پر تو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں مگر اس بات کا انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کا وطن کن مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ملک کی تربیت یافتہ افرادی قوت باہر چلی جاتی ہے بلکہ ملک ایسے افراد سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کی ترقی میں بھر پور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تربیت یافتہ افراد کی کمی ملک کی ترقی میں مانع ہوتی ہے اور ملک اپنے مقاصد حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹروں اور اساتذہ کی کمی مستقبل میں ہسپتا لوں اور اسکولوں میں کمی کا باعث ہوگی۔

ذین اور ہنرمند افراد کی بحیرت میں کمی کرنے کے لیے انتہائی سنجیدگی سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم 15 یافتہ افراد کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ انہیں ملازمت ذاتی تعلقات یا سفارشات کے بجائے ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر دی جائے گی۔ ان کی کارکردگی اور صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ ان کے ذہنوں میں ملکی نظام کے بارے میں موجود بے چینی کا ازالہ کیا جاسکے۔ ان افراد پر یہ شرط لگادی جائے کہ انہیں اپنے وطن میں ایک مخصوص عرصہ تک کام کرنے کے بعد ہی کسی دوسرے ملک میں جانے کی اجازت دی جائے گی تاکہ وہ اپنے ملک کا قرض کچھ تو ادا کر دیں۔ یونیورسٹیوں کے معیار کو بڑھایا جائے تاکہ طلباء کو دوسرے ملکوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ 20

بیرونی ممالک میں پاکستان کے سفارت خانوں کو ان ملکوں میں موجود پاکستانی طلباء کی صحیح تعداد کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ وہ انہیں اپنے وطن میں ہونے والے ترقیاتی منصوبوں سے باخبر رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ان افراد کے دلوں میں جذبہء حب الوطنی کو بیدار کریں تاکہ یہ طلباء اپنے ملک کی تہذیب اور ثقافت کی تدریک رکنا یکھیں۔

۲۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب اردو میں جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔
 [ہر سوال کے بعد دینے گئے مارکس لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان کے معیار کے لیے اور ۵ مارکس تک دیے جاسکتے ہیں۔]
 [کُل ۱۵ + ۵ = ۲۰ مارکس]

- [2] ا: تعلیم یافتہ اور ہنرمند میں کیا فرق ہے؟
- [2] ب: پاکستانی ایئر لائن کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور کیوں؟
- [3] ج: ملک کی ترقی پر ہجرت کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟
- [2] د: ہسپتاں اور سکولوں کی مثال سے مصنف کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟
- [2] ر: مصنف نے اس مسئلے کے حل کے لیے کس قسم کی دو مختلف تجویز پیش کی ہیں؟
- [4] س: سفارت خانوں کے کردار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیوں؟

[Total: 15 + 5 for language = 20 marks]

۵۔ (الف) دونوں اقتباسات کی روشنی میں ہجرت کرنے والوں کے حوالے سے قومی اور ذاتی مفاد کی کشکش کا موازنہ کیجیے۔

۵۔ (ب) کیا آپ اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں رہنا پسند کریں گے اور کیوں؟

سوال کے دونوں حصوں کے جواب مجموعی طور پر ۱۳۰ الفاظ پر مشتمل اردو میں لکھیے۔

[اس کے علاوہ زبان کے معیار کے لیے ۵ مارکس تک دیے جاسکتے ہیں:]

[Total: 15 + 5 for language = 20 marks]

BLANK PAGE

BLANK PAGE

Copyright Acknowledgements:

Passages 1 & 2: © Falaq A.S Hamirani; www.chitraltimes.com; 29 July 2008.

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

University of Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.